

All Women PSK

March 08, 2021

صرف خواتین کے لئے پاسپورٹ سیوا کیندر

08 مارچ، 2021

وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب وی مرلی دھرن وزارت داخلہ کے پرچم بردار پاسپورٹ سروس پروگرام کے تحت 8 مارچ 2021 کے عالمی یوم خواتین کے موقع پر دو پاسپورٹ سروس کیندر کی نقاب کشائی کی، جس کو "صرف خواتین کے لئے پاسپورٹ سیوا کیندر" کے طور پر تبدیل کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک آر کے پورم، بھکیاکاما پلیس، نئی دہلی اور دوسرا کیرالا کے تریپنتورا، میں قائم کیا جائے گا۔

پاسپورٹ خدمت پروگرام حکومت ہند کا ایک مہتواکانکشی پروگرام رہا ہے، اور وہ ہندوستان میں شہریوں اور ملک سے باہر مقیم ہندوستانی شہریوں کو پاسپورٹ سے متعلق خدمات فراہم کرنے والا ایک سب سے کامیاب پروگرام بن کر ابھرا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ڈیجیٹل انڈیا کے وژن پر موثر انداز میں عمل درآمد کیا گیا ہے درج ذیل امور کے کامیاب قیام کے ساتھ:

i۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے مابین ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کے ذریعہ شہریوں کو ان کے دہلیز پر پاسپورٹ سے متعلق خدمات کی فراہمی

ii۔ ہموار گورننس اور خدمات کی آسانی کو یقینی بنانا

iii۔ شہریوں کو ڈیجیٹل طور پر با اختیار بنانا

وزارت نے مئی 2014 کے بعد سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی شہریوں کو پاسپورٹ خدمات کی فراہمی میں مقداری اور معیاری بہتری لانے کے لئے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں، ملک بھر میں موجودہ 36 پاسپورٹ دفاتر کے ایک حصہ کے طور پر 93 پاسپورٹ سیوا کیندر اور 426 پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر کو آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، پروگرام کو بیرون ملک 190 ہندوستانی مشن / پوسٹس تک بھی پہنچایا گیا ہے اور اس طرح عالمی سطح پر رسائی پہنچائی گئی ہے۔ وزارت کے اٹھائے گئے اقدامات سے شہریوں کو بروقت، شفاف، زیادہ قابل رسائی، قابل اعتماد انداز اور آرام دہ ماحول میں ہموار عمل، پر عزم، تربیت یافتہ اور متحرک افرادی قوت کے ذریعہ پاسپورٹ کی خدمات کی فراہمی میں مدد ملی ہے۔ پاسپورٹ کے عمل، دستور العمل اور قواعد کو آسان بنانے کے لئے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔

مذکورہ بالا امور کے علاوہ، وزارت نے پاسپورٹ سروس پروگرام کے تحت خواتین کو با اختیار بنانے کے لئے پہل کی ہے۔ پاسپورٹ سروس پروگرام میں مجموعی طور پر 1670 خواتین ملازمین تعینات ہیں۔ پاسپورٹ سروس پروگرام کے ذریعے، آج تک 2.76 کروڑ سے زائد درخواست دہندگان کو پاسپورٹ جاری کر دیئے گئے ہیں۔ پچھلے تین سالوں میں خواتین درخواست دہندگان کو 1.03 کروڑ پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں، جن کی کل تعداد تمام درخواست دہندگان کی 35% ہے۔

وزیر مملکت جناب مرلی دھرن نے اس بات کا اظہار کیا کہ حکومت پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی کے مختلف شعبوں میں مرد اور خواتین دونوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لئے مستقل طور پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی سربراہی میں ملک ایک ترقی پسند، تکنیکی طور پر ترقی یافتہ اور معاشرتی طور پر متنوع برادری کی طرف گامزن ہے، اور 8 مارچ 2021 کو منعقدہ اجتماع کی موجودگی سے خواتین کی کامیابیوں کا اندازہ ہوتا ہے جس میں ہندوستانی فضائیہ، ریلوے، ہیلتھ سیکٹرز، میڈیا اور تفریح وغیرہ سے تعلق رکھنے والی خواتین لیڈرس اور مستقبل کی خواتین لیڈرس نے حصہ لیا۔ اس میں شریک معززین کو پاسپورٹ سروس پروگرام کے فرینڈز کے طور پر نامزد کیا گیا ہے تاکہ اس آسانی کے بارے میں آگاہی پیدا کی جاسکے جس سے پاسپورٹ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

نئی دہلی

08 مارچ، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.